


25.10.2022

Junior to counsel for appellant present.

Kabir Ullah Khattak, learned Additional Advocate General alongwith Khalil Khan S.I for respondents present.

Reply not submitted. Representative of respondents requested for time to submit reply. Opportunity is granted. To come up for reply/comments on 23.11.2022 before S.B at Camp Court, D.I Khan.

**SCANNED  
KPST  
Peshawar**

  
(Rozina Rehman)  
Member (J)  
Camp Court, D.I.Khan

27<sup>th</sup> September, 2022

Learned counsel for the appellant present and submitted application for condonation of delay as well as application for annexing necessary document in the instant appeal which is placed on file.

Learned counsel for the appellant submits that against the impugned order of awarding major punishment of dismissal from service passed by the DPO, D.I.Khan on 03.06.2020, the appellant filed departmental appeal on 15.06.2020 which was rejected by the Regional Police Officer on 08.10.2020. Whereafter revision petition was filed before the IGP which was dismissed vide order bearing endorsement No. S/3195/21 dated 29.07.2021 and according to the appellant that was not communicated to him and he had applied for copy of the same was supplied on 17.09.2021. The appellant filed this appeal on 04.10.2021 which is though slightly barred by limitation. This appeal is admitted to full hearing subject to all just and legal objections by the other side regarding limitation. Appellant is directed to deposit security fee. Out district respondents be summoned through TCS, the expenses of which be deposited by the appellant within three days, while the local respondents be summoned through process serving agency of the learned Senior Civil Judge, ~~Rawalpindi~~ <sup>D.I.Khan</sup>. To come up for written reply/comments on 25.10.2022 before S.B at camp court D.I.Khan.

Rs 100/-  
Appellant Deposited  
Security & Process Fee  
21/10/22

2  
No. 344



(Kalim Arshad Khan)  
Chairman  
Camp Court D.I.Khan







30<sup>th</sup> June 2022

Counsel for the appellant present.

Learned counsel for the appellant intends to submit condonation of delay application. He may do so within a week. Adjourned. To come up for preliminary hearing on 22.08.2022 before S.B at camp court D.I.Khan.



(Kalim Arshad Khan)  
Chairman  
Camp Court D.I.Khan






Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No.- 763 2021

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	18/10/2021	<p>The appeal of Mr. Muhammad Qadeer resubmitted today by Mr. Muhammad Idrees Khan Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p> REGISTRAR</p>
2-		<p>This case is entrusted touring S. Bench at D.I.Khan. Notice be issued to appellant/counsel for preliminary hearing to be put there on <u>13/12/21</u>.</p> <p> CHAIRMAN</p>
	15.12.2021	<p>Nemo for appellant.</p> <p>Notice be issued to appellant/counsel for 21.02.2022 for preliminary hearing before S.B at Camp Court, D.I.Khan.</p> <p> (Rozina Rehman) Member (J) Camp Court, D.I.Khan</p>
	21-02-2022	<p>Due to retirement of the Hon'ble Chairman to come up for the same as before on 30/6/2022</p>

The appeal of Mr. Muhammad Qadeer S/O Wali Muhammad, Constable, R/O Panyala, Mohallah Siraj Khel, Tehsil & District Dera Ismail Khan received today i.e. on 04.10.2021 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

- ① Check list is not attached with the appeal.
- ✓2- Appeal has not been flagged/marked with annexures marks.
- ✓3- Annexures of the appeal may be attested.
- ✓4- Affidavit may be got attested by the Oath Commissioner.
- ✓5- Certificate be given to the effect that the appellant has not been filed any service appeal earlier on the subject matter before this Tribunal.
- ⑥ One more copies/sets of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.
- ✓7- Approved file cover is not used.

No. 1970 /S.T,


Dt. 05/10 /2021

REGISTRAR  
SERVICE TRIBUNAL  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR.

Mr. Muhammad Idrees Khan Adv. DI Khan.

Respectfully Sir!

Objection's cited above from serial no. 2 to 5 and 7 has been cured, while as for as objection no. 6 is concerned, complete photocopies sets numbering 6 in number, has already been sent with original, while format of check list is not available at this station, hence be condoned.

  
M. Idrees Khan  
9/10/2021

**BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER  
PAKHTUNKHWA, PESHAWAR, CAMP COURT DIKHAN.**  
Service Appeal No. 7613/2021

Muhammad Qadeer  
**VERSUS**  
Secretary Home & Affairs Department etc


**INDEX**

<b>S.No</b>	<b>Description of documents</b>	<b>Annexure</b>	<b>Page</b>
01	Grounds of appeal along with affidavit.		1-3
02	Copy of application dated 20/01/2020	"A"	4
03	Copy of order dated 03/06/2020, appeal dated 15/06/2020 and order dated 08/10/2020	"B, C & D"	5-7, 7A
04	Copy of second appeal and impugned order dated 29/07/2021	"E & F"	8-17
05	Vakalatnama		18.

Your Humble Appellant

**Muhammad Qadeer**  
Through counsel

Dated: 02/10/2021

  
**MUHAMMAD IDREES KHAN**  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan.

**BEFORE THE HONOURABLE SERVICE TRIBUNAL KHYBER**  
**PAKHTUNKHWA, PESHAWAR, CAMP COURT DIKHAN.**  
Service Appeal No. \_\_\_\_\_/2021

**Muhammad Qadeer (Constable)** son of Wali Muhammad  
Caste Siraj Khel, R/o Panyala, Mohallah Siraj Khel, Tehsil &  
District Dera Ismail Khan.

.....(Appellant)

**VERSUS**

1. Secretary Home & Tribal Affairs, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Inspector General Of Police, KPK, Peshawar.
3. Regional Police Officer / DIG, Dera Ismail Khan Division.
4. District Police Officer, Dera Ismail Khan.

.....(Respondents)

**SERVICE APPEAL UNDER SECTION 4 OF**  
**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE**  
**TRIBUNAL ACT 1974 AGAINST THE**  
**IMPUGNED ORDER BEARING NO. 1259**  
**DATED 03/06/2020 PASSED BY**  
**RESPONDENT NO. 4 VIDE WHICH THE**  
**APPELLANT WAS DISMISSED FROM**  
**SERVICE.**

**AND AGAINST THE IMPUGNED ORDER NO.**  
**2149 DATED 08/10/2020, VIDE WHICH**  
**APPEAL OF THE APPELLANT WAS**  
**DISMISSED BY RESPONDENT NO. 3.**

**AND AGAINST IMPUGNED ORDER NO.**  
**3195 DATED 29/07/2021, VIDE WHICH**  
**SECOND APPEAL TO RESPONDENT NO. 2**  
**WAS ALSO DISMISSED BY THE IBID**  
**RESPONDENT.**

**Respectfully Sheweth:-**

**1.**

That the appellant is serving in Police Department as "Constable" was on study leave from 20/01/2020 to 20/05/2020, and after expiry of the above leave period, the appellant again applied

for extension of study leave till 20/07/2020. Copy of application dated 20/01/2020 is enclosed as Annexure "A".


2- That respondent No. 4, without adopting any formal procedure, issued impugned order dated 02/06/2020, which was delivered to the appellant by the copying branch on 13/07/2020, against which appellant preferred an appeal to the next higher authority / RPO DIKhan / Respondent No. 3 on 15/06/2020, which was dismissed too vide impugned order No. 2149 dated 08/10/2020. Copies of order dated 02/06/2020, copy of appeal dated 15/06/2020 and impugned order dated 08/10/2020 are enclosed as Annexure "B, C & D".

3- That being aggrieved from the orders of lower authorities, the appellant preferred a second appeal to the respondent No. 2 / IGP, KPK, Peshawar, which was dismissed too on 29/07/2021. Copy of second appeal and impugned order dated 29/07/2021 are enclosed as Annexure "E & F".

4- That being aggrieved from the act of the respondents, the Appellant knocks the door of this Honourable Tribunal Court, inter alia, on the following grounds:-

**Grounds:-**

- 1- That the act of the respondents is totally illegal, void, without jurisdiction and ineffective upon the rights of Appellant.
- 2- That respondent No. 4 vide issuing first impugned order was without any substance and is violative upon the statutory provisions mention therein.
- 3- That respondent No. 2 violation of impugned order have never bothered to serve the appellant with any single notice or statement of allegation in order to gave the appellant affair opportunity of defense, which is against the dictum of natural justice.
- 4- That respondents authority have violated all the statutory provisions as well as the right of fair trial of the appellant, which is not maintainable in the eyes of law and un-constitutional at the same time.





5- That beside affording the appellant, an opportunity of defense, respondent No. 2 has acted against his own order, vide which the appellant was allowed for study leave, which is above the prudent mind and the act of commission of the respondent authority (Respondent No. 2) is seem to be upon the basis of personal grudge or alike thing which is not appreciable.

6- That counsel for the appellant may kindly be allowed to raise additional grounds during the course of arguments.

*In wake of submissions made above, it is respectfully prayed that by accepting this appeal, the respondents may kindly be ordered to reinstate the Appellant in service as Constable with all back benefits w.e. from 20/01/2020.*

*This Honourable Tribunal may kindly be grant any other relief, if deemed appropriate in the best interest of justice & equity.*

Your Humble Appellant

Muhammad Qadeer  
Through counsel

Dated: 02/09/2021

**MUHAMMAD IDREES KHAN**  
Advocate High Court  
Dera Ismail Khan.

**AFFIDAVIT:-**

I, **Muhammad Qadeer (Constable)** son of Wali Muhammad Caste Siraj Khel, R/o Panyala, Mohallah Siraj Khel, Tehsil & District Dera Ismail Khan, the appellant, do hereby solemnly affirm declared on oath that contents of the above **Appeal** are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed from this Honourable Tribunal Court.

**Deponent**

Identified by Counsel;

**MUHAMMAD IDREES KHAN**  
Advocate High Court,  
Dera Ismail Khan.

صالح ڈیرہ ایف اے

رزٹرو سیکشن گورنمنٹ ٹیورنری

Annex - A

4

ضالہ علی ا

گزارش کے سائل حال ہی میں گورنمنٹ ٹیورنری میں لکھنا  
ہوا ہے اور حلقہ قراقرم کے لئے MA رسیدہ ہے فائنل  
کی تیار کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی  
تیار کی خاطر رخصت طلب درکار ہے۔

لہذا رسیدہ سائل کو چار ماہ رخصت طلب  
(Long live) خطا غلطی سے ہے۔

آئی اے گورنمنٹ ٹیورنری

فقط ۱۱/۱۱/۲۰۲۰

الکاح

اصلی رپورٹ نمبر ۱۱۳۲ حلقہ سیکشن گورنمنٹ ٹیورنری

Sir,  
Forwarded  
@ 10/11/20

11/11/20

Sir,  
FORWARDED

Depy. Superintendent  
Police, Geras Circle  
Dil Khan

M.P. OKC

1132



OFFICE OF THE  
DISTRICT POLICE OFFICER,  
DERA ISMAIL KHAN

Tel: (0966) 9280062  
Fax (0966) 9280293

No. 3890 /EC.

Dated. 02/06/2020

**ORDER**

Annex-B

5

This order will dispose of departmental proceedings conducted against Constable Muhammad Qadeer No.1132, of this district Police, under the Khyber Pakhtunkhwa, Police Rules, 1975 (amendment 2014).


As reported by Moharrir PS/Gomal University vide DD No.18 dated 28.03.2020, that while he posted at PS Gomal University and deployed at Gomal University for Security Guard duty, he were relieved for 01-month on 27.02.2020, and due for report on 28.03.2020, but he absented himself from law full duties till date without any leave or permission from the high ups.

He was served with charge sheet/statement of allegations. An enquiry was conducted into the matter through Mr. Iftikhar Ali Shah DSP/Paroa Circle DI Khan, under Police Rules-1975 ammended-2014. The Enquiry Officer submitted his finding report in which he stated that the allegations against the delinquent Constable, Muhammad Qadeer No.1132, has been proved due to absence from lawful duty w.e.from 28.03.2020 till date. He (EO) further added that he has not submitted the reply of charge sheet neither appear before the Enquiry Officer. Therefore, it is recommended that the aforementioned delinquent Constable Muhammad Qadeer No.1132 may kindly be awarded Major Punishment.

Keeping in view of finding and recommendations of the Enquiry Officer, the undersigned came to the conclusion that the charges of misconduct stand proved against him beyond any shadow of doubt.

Therefore, in exercise of powers conferred upon me under the ibid rules I, Capt. @ Wahid Mehmood, District Police Officer, DI Khan, award him a Major Punishment Dismissal from service with immediate effect.

OB No. 1259  
Dated. 03/06/2020

  
Capt: @ WAHID MEHMOOD, PSP  
District Police Officer,  
Dera Ismail Khan

- (a) Register No. 68
- (b) Application received on 13.7.2020
- (c) Copying fee submitted on 13.7.2020
- (d) Judgment sent for copy on 13.7.2020
- (e) Fee of 13.7.2020
- (f) Copy for Muhammad Qadeer
- (g) Copy for No. 1132
- (h) Name of copyist for Apect
- (i) Copy completed on 13.7.2020
- (j) Copy delivered on 13.7.2020
- (k) Copy of for Apect

کمزور زبان والا اسٹاک رینجیل پولیس کا فینڈیشن ضلع طبرہ میں ملحقان  
عمدان: بہادرانہ لکم ایبل ریاست کالجی سروس پولیس کنٹریل  
ذیاب عالی!

فورڈانہ ایف ایس سے کہ سائل بطور پولیس کنٹریل خفندہ کو مل پونپور ٹی ای اے تھینا بقما  
آمل ایک حافظہ ان اور ایچ اسلیمینک کا طالب علم ہے چند لوگ سٹیڈ ان پائل کی یاد دہانی  
رور ۸۸۵۱۱۱ کی تیار کی تھی۔ یہ میں جو ۲۵ اگست سے چار ماہ لگاتار تھیں۔ لیکن  
۲۵ اگست کو وہاں کی لکھنؤ نے یہ آہٹا ماری ظاہر کی۔ لیکن آمل کو وہاں ایک لکھنؤ کی فطوری  
رکھی۔ میں نے اس لیے اپنے آپ کو رومان کی رشتہ سے سبھا جی اللہ لکھنؤ کی اور جو ۲۷  
تا ۳۱ اگست فطوری لکھی تھی۔

ذیاب والا! ایک لکھنؤ میں ایک شہر میں پولیس سے اور اللو ان کی کف سے اور اللو ان کی کف سے  
کالی سے نہ تو خودی و خودی و خودی ملی ہے اور نہ ہی اللو ان کی کف سے اور اللو ان کی کف سے  
خود سٹوکی زالطریک سے۔ یہ سب غلطیوں سے لکھنؤ سے۔ نہ تو خودی و خودی  
طوری شکوے لکھنؤ کے مالک سے اور نہ ہی سب سے لکھنؤ ان کی اور وہاں کی اطلاع رکھی ہے  
تورہ: ۲۶ کو ۲۵ اگست سائل کو سروس سے سب سے لکھنؤ سے ہیں  
انہی کو لکھنؤ کے لکھنؤ کے سب سے لکھنؤ سے۔ نادانگی اور کسی غلطی سے لکھنؤ سے  
کی بنا سے لکھنؤ سے اپنے آپ کو تصور وار کھنؤ کے لکھنؤ کے لکھنؤ سے Sanction کے  
لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے  
فطوری لکھنؤ کو اس علم کا اور لکھنؤ سے لکھنؤ سے

مذہب والا اور وہاں سے سب سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے  
کہ میں نے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے  
کالی سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے لکھنؤ سے  
تورہ: ۲۶/۱۵

۲۷  
آمل خرقہ ذیاب ۱۱۳۲ سیلوری کادر کو مل پونپور کالجی سروس پولیس کنٹریل



OFFICE OF THE  
REGIONAL POLICE OFFICER  
DERA ISMAIL KHAN  
REGION

Annex-D (7)

1743  
08-10-20

No: 9120 /ES, Dated: 07/10/2020

**ORDER**

This order is aimed to dispose of the departmental appeal of **Ex-Constable Muhammad Qadeer No.1132** of District Police Dikhan against the Major Punishment order i.e. Dismissal from Service by DPO Dikhan vide SB No. 1259 dated 03.06.2020 on the following allegations:

Facts of the case are that as reported by Mohanir PS Gomal University vide **DD No.15** dated 28.03.2020 that while he posted at PS Gomal University and deployed at Gomal University for security duty, he was relieved for 01 month on 27.02.2020 and due for **Report on 28-03-2020**, but he absented himself from lawful duties till date without any leave or permission from the high ups.

He was issued charge sheet and proper **departmental proceedings were initiated against him**. Enquiry into the matter was **conducted** by Mr. Iftikhar Ali Shah DSP Para Circle Dikhan, who submitted his findings report in which **he reports** that the allegations against the delinquent Constable Muhammad Qadeer No.1132 has been proved **disproved** from lawful duty w.e. from 28.03.2020 till date. The Enquiry Officer further **added that he has** not submitted the reply of charge sheet neither appears before the Enquiry officer. Therefore, it is recommended that **the aforementioned delinquent Constable may** kindly be awarded Major Punishment. Hence, DPO Dikhan has passed the order dated 03.10.2020.

He preferred an appeal to the undersigned on 15.06.2020 against the order of DPO Dikhan. His appeal was sent to DPO Dikhan for comments and to provide his service period vide this office Endst: No. 2915/ES dated 21.07.2020. DPO Dikhan vide his office memo: No. 5081 dated 30.07.2020 has furnished the comments on the subject appeal.

The undersigned perused the file of the **appeal** thoroughly as well as heard him in person in Orderly Room dated 23.09.2020. Enquiry into the case was conducted by DSP Para Circle Dikhan who found him guilty of the charges leveled against him and recommended him for **Major punishment**. His **absence** is of 65-days which shows that he **has no interest** in his job and it is not ignorable.

Therefore, I, YASEEN FARUQ, Regional Police Officer, Dera Ismail Khan, in exercise of the powers conferred upon me under **Rule-11(1)(a)** of Police Rules 1975 amended 2014, the Major punishment of Dismissal from Service awarded by DPO Dikhan uphold the order of penalty and his appeal is hereby rejected.

(YASEEN FARUQ) PSP  
REGIONAL POLICE OFFICER  
DERA ISMAIL KHAN

EC/GHC

No. 9121

/ES

DT. 8-10-20

Copy of above is sent to the DPO Dikhan alongwith service records w.r.t his office memo: No. 5081/EC dated 30.07.2020.

PPS attached

07/10

(YASEEN FARUQ)  
REGIONAL POLICE OFFICER  
DERA ISMAIL KHAN

DPO/DIKHAN

- 1) Application received on 26.5.20
- 2) Copying fee accounted on \_\_\_\_\_
- 3) Judgement filed for copying on \_\_\_\_\_
- 4) Name of applicant Muhammed Qadeer
- 5) Search No. DDO 1132
- 6) Urgent fee \_\_\_\_\_
- 7) Number of copies \_\_\_\_\_
- 8) Copy completed on 26.5.2021
- 9) Copy distributed on 31.5.2021
- 10) Name of Officer Yaseen Faruq

.....**BETTERCOPY**.....

OFFICE OF THE  
REGIONAL POLICE OFFICER  
DERA ISMAIL KHAN  
REGION

FA

No. 9120/ES Dated D I Khan the 07/10/2020

**ORDER**

This order is aimed to dispose of the departmental appeal of Ex-constable Muhammad Qadeer No.1132 of District police D I Khan against the Major Punishment order i.e Dismissal from Service by DPO D I Khan vide CB No. 1259 dated 03/06/2020 on the following allegations:

Facts of the case are that as reported by Moharir PS Gomal University vide DD No. 18 dated 28/03/2020 that while he posted at PS Gomal University and deployed at Gomal University for security duty, he was relieved for 01 month on 27/02/2020 and due for report on 28/03/2020, but he absented himself from lawful duties till date without any leave or permission from the high ups.

He was issued charges sheet and proper report mental proceedings were initiated against him. Enquiry into the matter was conducted by Mr. Iftikhar Ali Shah DSP Paroa Circle D I Khan who submitted his findings report in which he reported that the allegations against the delinquent Constable Muhammad Qadeer No. 1132 has been proved from lawful duty w.e from 28/03/2020 till date. The Enquiry officer further added that he has not submitted the reply of charge sheet neither appears before the Enquiry Officer. Therefore, it is recommended that the aforementioned delinquent constable may kindly be awarded Major Punishment. Hence, DPO D I Khan has passed the order dated 03/06/2020.

He preferred an appeal to the undersigned on 15/06/2020 against the order of DPO D I Khan. His appeal was sent to DPO D I Khan for comments and to provide his service period vide this office Endst: No. 2915/ES dated 21/07/2020. DPO D I Khan vide his office memo: No. 5081 dated 30/07/2020 has furnished the comments on the subject appeal.

The undersigned perused the file of the appellant thoroughly as well as heard him person in Orderly room dated 23/09/2020. Enquiry into the case was conducted by DSP Paroa Circle D I Khan who found him guilty of the charges leveled against him and recommended him for major punishment. His absence is of 65-days which shows that he has no interest in his job and it is not ignorable.

Therefore, I, **Yaseen farooq**, Regional Police officer, Dera Ismail Khan, in exercise of the powers conferred upon me under Rule-11(4)(a) of Police Rules 1975 amended 2014, the Major Punishment of Dismissal from since awarded by DPO D I Khan uphold the order of penalty and his appeal is hereby rejected.

**(YASEEN FAROOQ)**PSP  
REGIONAL POLICE OFFICER  
DERA ISMAIL KHAN

No.9121 /ES

Copy of above is sent to the DPO D I Khan along with service record w.r.t his office memo: No.5081/ES dated 30/07/2020

**(YASEEN FAROOQ)**  
REGIONAL POLICE OFFICER  
DERA ISMAIL KHAN

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

8

اسم کتاب: ...

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

MA / Islamic Studies

26/12/2016

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سرانجام صفا حلقہ کا کہہ چاہو اور یہ مسائل مبارک  
انہی آداب سے شروع ہوگی

4 - ظاہری زندگی بجا آوری اور باطنی طور پر  
کھوار ہو کر سے گزرتے خدیجان سے  
قرآن کریم کی دہرائی وہ حقیقی ہے

5 - یہ کہ جسے جو کچھ یہ دنیا مانی ہے اور  
یہ سلاوت بھی خند زور کی ہیجان ہے  
کسی نہ کسی سے قرآن کریم کی دہرائی حقیقی  
حاصل ہے تاکہ اسے اس جتنی آواز چھوڑ  
نہ جائے اور

6 - سچ انہی رفیقوں جو کہ مانتی تھی حقائق



سورک حله فری - اور ایسی خط کے عجا

کہ - اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ  
وقت درکار ہوگا - اللہ اللہ اللہ اللہ

میں سب سے پہلی خط قرآن اور میں کرونگا

تہا ہے یہی وقت قرآن ہے چاہے کی دوزخ

خواب سہا کہ جب اودی - اور واقف

کروگا - کہہ کر ضروری کام و

خط قرآن ہے - اور ایسی

MA Islamic Studies

عقبت کرے گا

C.

8 - رمضان المبارک 24 اپریل 24

دائرہ کا قیدی ہے طیارہ رقبہ  
گاراں کی درخواست ماہ جنوری 2020ء  
سی پری لئی جو کہ منسوخ نہیں ہے

9 - یکم جنوری 2020ء سے دوبارہ درخواست

رقبہ طائرہ پری اور جمع 27 جنوری

2020ء کوئی سگی

اور اپریل 2020ء  
یہی ہے رقبہ طائرہ پری  
پر حجاب و اجرت جو کہ

مذمت خود قاری التواں عی ہے

امری درخواست پر اس وقت تک

کے دوران اس شک میں پڑے کہ

شاید میں حافظ القرآن ہوں گے یا نہیں

میں تھوڑے سے طے لگے رہے ہیں اور

مہر محفوظ ہے۔ ۱۵

میں دو آیتوں کی توثیق ہو گئی  
 فرمایا۔ جو میں اللہ پاک کے فضل

سے کفر سنائی۔

۱۵ - مہر محفوظ ہے۔ ۱۵

دو ماہ رمضان کی منگولی بہار کا آغاز

تو میں نے التجا کی کہ اگر میں کو

6-

حجے وقفہ طوں میں چار ماہ کا فطری حکم ہے

حاجے کے وقفہ میں سب کو ہی چھوڑنا۔ تو  
رہی عند نبویؐ

11 - خطاب - کہ جب تک کسی کو وہاں پر

الکفار و فطامہ اور حجہ وقفہ میں دعا

12 - حکایتیں ہیں کہ وقفہ طوں میں لوگوں کو

کام میں حیرت اور ہیبت لگاتی ہے

حجے کے وقفہ میں اور طوں میں حجراتی حکم

13 - بہ طائفی کے وقفہ طوں سے اس

جو حجے میں ہی مسرت سے سفر

7 -

بھائی کا

14 - بھائی پریشان ہو گیا۔

نظر پڑھا کے بعد مجھے اپنی سوت سے

کے طرف بھاگنے سے تو

ملائی۔ کہ یہ بھائی کے طرف سے

میں نے محض ایک بار بھائی کے

اور اس کے بعد ان کو

گھبرا

15 - بھائی نے ان کو

کھینچ کر لے گیا۔

میرے پاس سے لے گیا۔

البرق اور فوجی عمل اور مری میٹروپولیٹن اور

عندہ حاضر ہوا تھا۔ 10 دیو جب کوٹا تھی۔

اور اس کے جا۔ 10 دیو کے ساتھ تھی

کمزور تھی۔ *Earbail hearing*

میں نے فوجی اور فوجی مہارت سے

کس نے نہ دیکھی اور یہی سنا

گئی اور اس کا نام اور اس کے لیے

عدالت سے طرز عمل

16 - خراب۔ 10 دیو کے ساتھ تھی اور وہ

اور اس کے ساتھ یہ سنا گیا ہے

ایک طرف سے کٹاؤں اور دوسری طرف سے

Reject بنی ہوئی

دکان - بی بی صاحبہ کی طرف سے

بی بی رقم کلاں کے حق میں رقم کلاں

کے بارے میں

بی بی رقم کلاں کے بارے میں

رقم کلاں کے بارے میں

بی بی رقم کلاں کے بارے میں

29/10

2020

بی بی رقم کلاں - رقم کلاں 1132 Ex کل

بی بی رقم کلاں (بی بی رقم کلاں)

[Signature]

[Signature]

Annex-F

17



OFFICE OF THE  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
Central Police Office, Peshawar.

No. S/ 3195 /21, dated Peshawar the 29/07 2021.

To : The DSP/PAS,  
CPO, Peshawar.

Subject: - REQUEST FOR RE-INSTATMENT IN SERVICE.

Memo:


Please refer to your office Memo No. 2091-92/CPO/1A3/PAS, dated 16.06.2021.

The competent Authority has examined and filed the revision petition submitted by Ex-Constable Muhammad Qadeer No. 1132 of Dera Ismail Khan District Police against the punishment of dismissal from service awarded by District Police Officer, D. Khan vide OB No. 1259, dated 03.06.2020, being badly time barred.

The applicant may please be informed accordingly.

  
(NOOR AFGHAN)  
Registrar,

For Inspector General of Police  
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

  
27/7





ADVOCATE HIGH COURT

MUHAMMAD IDREES  
Advocate  
bc-09-1918  
Date of issue: December 2017  
Valid upto: December 2020



# وکالت نامہ



حکومت سندھ، سروسز ٹریڈنگ کمپنی، ڈیرہ اسماعیل خان  
مقام  
نام  
دعوی یا جرم  
تفصیل دعوی یا جرم

## باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے پیشگی وکالت نامہ دی برائے پیشگی باقاعدہ مقدمہ نامہ  
محمد اسد علی خان ولد محمد اسد علی خان - ڈیرہ اسماعیل خان

کو سب ذیلی شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے کہ میں پیشگی پر خود یا بذریعہ دیگر رو برو عدالت حاضر ہوتا رہوں گا اور ہر وقت پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب  
موصوف کو اطلاع دے کر حاضر عدالت کروں گا اگر پیشگی پر منظر حاضر نہ ہو اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور میرے خلاف ہو گیا تو صاحب  
موصوف اس کے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام کچھری کے علاوہ یا کچھری کے اوقات سے پہلے یا بیچے یا بروز تعطیل  
بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے اور مقدمہ صدر کچھری کے علاوہ اور جگہ سماعت ہونے یا بروز تعطیل یا کچھری کے اوقات کے آگے یا بیچے پیش ہونے  
پر منظر کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اسکے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا سخت نہ واجب کرنے کے بھی صاحب موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے مجھ  
کو کس ساختہ پر راضی صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہو گا اور صاحب موصوف کو عرض دعوی یا جواب دعوی یا درخواست اجراء اسمائے ذگری  
نظر ثانی اپیل گرانے یا ہر قسم درخواست ہر قسم کے بیان دینے اور پر ثانی یا راضی نامہ و فیصلہ برصاف کرنے اقبال دعوی کا بھی اختیار ہو گا اور بصورت مقرر ہونے  
تاریخ پیش مقدمہ مزکور بیرون از کچھری صدر بیروی مقدمہ مزکور نظر ثانی اپیل و گرانے و برآمدگی مقدمہ یا بتدوین ذگری یک طرفہ یا درخواست حکم اتناہی یا قرنی  
یا گرفتاری قبل از فیصلہ اجرائے ذگری بھی صاحب موصوف کو بشرط ادا ہوگی علیحدہ مختصمیری کا اختیار ہو گا اور تمام ساختہ پرواضی صاحب موصوف مثل کردہ  
از خود منظور و قبول ہو گا اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہو کہ مقدمہ مزکورہ یا اس کے کسی جزو کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی  
اپیل گرانے یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا ہیر سز کو اپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں اور ایسے شیر قانون کو بھی ہر امر میں رہی اور دیے  
اختیارات حاصل ہوں گے جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جائے التواء پڑے گا وہ صاحب موصوف کا حق ہو گا مگر  
صاحب موصوف کو پوری نسیں تاریخ پیشگی سے پہلے ادا نہ کروں گا تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہو گا کہ مقدمہ کی پردی نہ کریں اور ایسی صورت  
میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے تاکہ سند ہے  
2021  
0  
ماہ

مضمون وکالت نامہ من لیا ہے اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے

Accepted

H.C

محمد اسد علی خان

**"A"**

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**  
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,  
PESHAWAR.

No.

TB D/K

APPEAL No. 7613 of 20 21

Mohammad Qadeer

Appellant/Petitioner

Versus

Secy: Home & TA Pesh


RESPONDENT(S)

Notice to Resp No 4 District Police Officer  
DIKhan

Take notice that your appeal has been fixed for Preliminary hearing, replication, affidavit/counter affidavit/record/arguments/order before this Tribunal on 25-10-22 at 9:00 AM

You may, therefore, appear before the Tribunal on the said date and at the said place either personally or through an advocate for presentation of your case, failing which your appeal shall be liable to be dismissed in default.

at camp court  
DIKhan

  
Registrar,  
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,  
Peshawar.

"A"

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**

JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,  
PESHAWAR.

*Regd*

*TB DIK*

APPEAL No. *7613* of 20 *21*

*Mohammad Qadeer*

Appellant/Petitioner

Versus

*Secty. Home & TA Pesh*

RESPONDENT(S)

Notice to Appellant/Petitioner *Resp No 3 Regional Police Officer*  
*(DIG, D/Klu)*

Take notice that your appeal has been fixed for Preliminary hearing, replication, affidavit/counter affidavit/record/arguments/order before this Tribunal on *25-10-22* at *9:00 AM*

You may, therefore, appear before the Tribunal on the said date and at the said place either personally or through an advocate for presentation of your case, failing which your appeal shall be liable to be dismissed in default.

*at Camp Court*  
*D/Klu*

*[Signature]*

*[Signature]*

Registrar,  
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,  
Peshawar.

MUHAMMAD GREES


Advocate  
bc-09-1918  
Date of issue: December 2017  
Valid upto: December 2020



ADVOCATE  
HIGH COURT

وکالت نامہ

Acting Secretary  
KP Bar Council



جلال محمد بن سردار / جلال محمد بن سردار - ڈیڑھ سہ ماہی خان  
جناب  
نام  
ڈیڑھ سہ ماہی خان  
دعویٰ یا جرم  
تفصیل دعویٰ یا جرم

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطہ بیرونی و جواب دہی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ بنام  
محمد احمد بن ظفر بن ولید (ڈیڑھ سہ ماہی خان) - ڈیڑھ سہ ماہی خان

کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے کہ میں پیشی پر خود یا پورا بذریعہ رو برو عدالت حاضر ہوتا رہوں گا اور ہر وقت پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب  
موصوف کو اطلاع دے کر حاضر عدالت کروں گا اگر پیشی پر مظہر حاضر نہ ہو اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور میرے خلاف ہو گیا تو صاحب  
موصوف اس کے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا بیچے یا بروز تعطیل  
بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے اور مقدمہ صدر پکھری کے علاوہ اور جگہ ساعت ہونے یا بروز تعطیل یا پکھری کے اوقات کے آگے یا بیچے پیش ہونے  
پر مظہر کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اسکے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا عنت نہ واپس کرنے کے بھی صاحب موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے مجھ  
کو کھل ساختہ پر وادختہ صاحب موصوف مش کردہ ذات خود منظور قبول ہو گا اور صاحب موصوف کو عرض دعویٰ یا جواب دعویٰ یا درخواست اجراء اسائے ڈگری  
نظر ثانی اپیل مگرانی و ہر قسم درخواست ہر قسم کے بیان دینے اور پر ثالثی یا راضی نامہ و فیصلہ برصفت کرنے اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہو گا اور بصورت مقرر ہونے  
تاریخ پیش مقدمہ مقرر بیرون از پکھری صدر بیرونی مقدمہ مقرر نظر ثانی اپیل و مگرانی و برآمدگی مقدمہ یا مسودہ ڈگری یک طرفہ یا درخواست حکم امتناعی یا قرتی  
یا گرفتاری قبل از فیصلہ اجرائے ڈگری بھی صاحب موصوف کو بشرط ادا یعنی علیحدہ مختص بیرونی کا اختیار ہو گا اور تمام ساختہ پروادختہ صاحب موصوف مش کردہ  
از خود منظور و قبول ہو گا اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہو کہ مقدمہ مذکورہ یا اس کے کسی جزو کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی  
اپیل مگرانی یا دیگر معاملہ و قدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا ہیر سٹر کو اپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں اور ایسے مشیر قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور دیے  
اختیارات حاصل ہوں گے جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جانہ التواء پڑے گا وہ صاحب موصوف کا حق ہو گا مگر  
صاحب موصوف کو پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہو گا کہ مقدمہ کی پروی نہ کریں اور ایسی صورت  
میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے تاکہ سند ہے  
02  
مورخہ

مضمون وکالت نامہ سن لیا ہے اور انہی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے

accepted  
H.C.

اسلام آباد

صن کا بیٹر سٹرائنڈرون سین زور مارکیٹ بالتمائل جائز ہونے ڈیڑھ سہ ماہی خان

12103-468710-1

**"A"**

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**  
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,  
PESHAWAR.

No.

TR DIK

APPEAL No. 7613 of 20 21

Mohammad Qadeer

Appellant/Petitioner

Versus

Secy. Home & TA Pesh

RESPONDENT(S)


Notice to Appellant/Petitioner Resp No 2 Inspector General of  
Police Pesh

Take notice that your appeal has been fixed for Preliminary hearing, replication, affidavit/counter affidavit/record/arguments/order before this Tribunal on 25-10-22 at 9:00 AM

You may, therefore, appear before the Tribunal on the said date and at the said place either personally or through an advocate for presentation of your case, failing which your appeal shall be liable to be dismissed in default.

at camp court

DIK



14/10/22

Registrar,  
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,  
Peshawar.